



5	הַנִּיּוֹ	מִבְּיֵא	עֲלִיָּה	פָּחַד	נֶאֱמַר	אֲדַנִּי	יְהוָה	צְבָאוֹת	מִכָּל	סְבִיבוֹתָי
	دیکھو-میں	لانے-والا-ہوں	تجھ-پر	خوف	فرماتا-ہے	خداوند	یہوواہ	لشکروں-کا	سب-سے	ارد-گرد-تیرے
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H6343</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3069</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5439</a>		

اور-تم-تتر-بتر-بو-جاؤ										
<a href="#">H5080</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H6908</a>	<a href="#">H5074</a>					

اور گا، جائے دیا کر منتشر طرف چاروں کو سب تم گا۔ دوں جانے چھا دہشت پر تجھ سے طرف کی پڑوسیوں تمام میں ہے، فرماتا الافواج رب مطلق قادر گا۔ کرے جمع کوئی کو گزینوں پناہ تیرے

6	וְאַחֲרָיִ	זֶן	אָשִׁיב	אֶת	שְׁבוּת	בְּנֵי	עַמּוֹן	נֶאֱמַר	יְהוָה:	ס
	اور-بعد-میں	اس	میں-لوناؤں-گا	کو	قیدیوں	بنی	عمون	فرماتا-ہے	یہوواہ	-
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7225</a>	<a href="#">H5983</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H6098</a>	

ہے۔فرمان کا رب یہ گا۔ کروں بحال کو عمونیوں میں بعد لیکن

7	לְאֶדוֹם	כָּה	אָמַר	יְהוָה	צְבָאוֹת	הָאֵין	עוֹד	חֲכֵמָה	בְּתִימָן	אֶבְרָהָ	עֵצָה
	ادوم-کے-بارے-میں	یوں	کہتا-ہے	یہوواہ	لشکروں-کا	کیا-نہیں	مزید	حکمت	تیمان-میں	جاتی-ربی	مشورہ
	<a href="#">H0123</a>	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H8487</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H6098</a>	

مبذوں	نسرتھا	حکمت-ان-کی
<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H5628</a>	<a href="#">H2451</a>

دانائی کی ان کیا سکتے؟ دے نہیں مشورہ صحیح مند دانش کیا ربا؟ نہیں نشان و نام کا حکمت میں تیمان میں کیا ہے، فرماتا میں بارے کے ادوم الافواج رب ہے؟ گئی ہو بے کار

8	נָסוּ	הַפְּנֹנ	הַעֲמִיקוּ	לְשִׁבְת	יִשְׁבִּי	דָדָן	כִּי	אֵיד	עֵשׂו	הַבְּאֵתִי	עֲלִי
	بھاگو	مڑو	گھرائی-میں-جاؤ	بسے-کو	رہنے-والو	ددان	کیونکہ	مصیبت	عیسو-کی	میں-لایا	اُس-پر
	<a href="#">H5127</a>	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H6009</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0343</a>	<a href="#">H6215</a>	<a href="#">H0935</a>			

عنت	وقت	سزا-دینے-اُس-کے
<a href="#">H6256</a>		

ہے۔گیا آقرب دن کا سزا میری ہوں، کرتا نازل آفت پر اولاد کی عیسو میں کیونکہ جاؤ۔ چھپ اندر کے زمین کرو، ہجرت کر بھاگ باشندو، کے ددان اے

9	אֶם	בְּצָרִים	בָּאוּ	לָךְ	לֹא	יִשְׁאָרוּ	עוֹלָלוֹת	אֶם	נִנְבִּים	בְּלִילָה
	اگر	انگور-چنے-والے	آئیں	تیرے-پاس	نہیں	وہ-چھوڑیں-گے	خوشے	اگر	چور	رات-کو
	<a href="#">H1219</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7604</a>	<a href="#">H5955</a>	<a href="#">H1590</a>	<a href="#">H3915</a>			

دیس:	کافی-اپنے-لیے
<a href="#">H1767</a>	<a href="#">H7843</a>

صرف وہ تو لبتے لوٹ تجھے وقت کے رات ڈاکو اگر جاتا۔ رہ پیچھے کے ان بہت تھوڑا تو آتے لئے کے چنے فصل مزدور اور ہوتا باغ کا انگور تو اگر ادوم، اے گا۔بو بُرا زیادہ کہیں سے اس انجام تیرا لیکن ہیں۔ سکتے جا لے کر اٹھا جتنا لبتے چھین ہی اتنا

10	כִּי	אֲנִי	חֲשַׁפְתִּי	אֶת	עֵשׂו	גְּלִיתִי	אֶת	מִסְתָּרוֹ	וְנִחַבְהָ
	کیونکہ	میں	میں-نے-ننگا-کیا	کو	عیسو	میں-نے-کھول-دیا	کو	چھپنے-کی-جگہوں-اُس-کی	اور-چھپنا
	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H2834</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6215</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4565</a>	<a href="#">H2247</a>	

لَا	یوچل	شدد	زرعو	واحقو	وشکنو	وایننو:
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H7703</a>	<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H7934</a>	<a href="#">H0369</a>

سائے ہم اور بھائی اولاد، کی اُس گا۔ سکے نہیں چھپ بھی کہیں وہ ہیں۔ نکالی ڈھونڈ جگہیں کی چھپنے تمام کی اُس کے کر ننگا کو عیسو نے میں کیونکہ گا۔رے نہیں باقی بھی ایک گے، جائیں ہو ہلاک

11	עֲזָבָה	יְתִימוֹת	אֲנִי	אֲחֵיהָ	וְאֶל־מְנַתִּיקָה	עָלִי	תִּבְטָחוּ:	ס
	چھوڑ	یتیموں-اپنے	میں	میں-زندہ-رکھوں-گا	اور-بیوہ-تیرے	مجھ-پر	بھروسہ-کریں-گی	-
	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H0982</a>			

رکھیں۔ بھروسا پر مجھ بھی بیوائیں تمہاری گا۔ رکھوں بجائے کو جان کی ان میں کیونکہ دے، چھوڑ پیچھے کو یتیموں اپنے

12	כִּי-	אֲכָה	אָמַר	יְהוָה	הִנֵּה	אֲשֶׁר-	אֵין	מִשְׁפָּטָם	לְשִׁתּוֹת	הַכּוֹס	שָׁתוּ	יִשְׁתּוּ
	کیونکہ	یوں	کہتا-ہے	یہوواہ	دیکھو	جو	نہیں	فیصلہ-ان-کا	پینے-کو	-پیالہ	پینا	وہ-پیئیں-گے
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H8354</a>					
	וְאֲתָה	הוּא	נָקָה	תִּנְקָה	לֹא	תִּנְקָה	כִּי	שָׁתָה	תִּשְׁתָּה:			
	اور-تو	وہ	بے-سزا	تو-رہے-گا	نہیں	تو-بے-سزا-رہے-گا	کیونکہ	پینا	تو-پیئے-گا			
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5352</a>	<a href="#">H5352</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5352</a>	<a href="#">H5352</a>	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H8354</a>			

سزا یقیناً تو نہیں، گی؟ بچے طرح کس جان تیری پھر تو پڑا۔ پینا بھی انہیں تھا گیا سنا یا نہیں فیصلہ کا پینے پیالہ کا غضب میرے جنہیں ہے، فرماتا رب گا۔

13	כִּי	בִּי	נְשִׁלְעֵתִי	נָאֵם-	יְהוָה	כִּי-	לְשִׁמָּה	לְחַרְפָּה	לְחַרְב	וְלִקְלָלָה
	کیونکہ	اپنی-ذات-کی	میں-نے-قسم-کھائی	فرماتا-ہے	یہوواہ	کہ	ویرانی	زُسوانی	خرابی	اور-لعنت
	<a href="#">H7650</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8047</a>	<a href="#">H2781</a>	<a href="#">H7045</a>				
	תְּהִיָּה	בְּצָרָה	וְכָל-	עָרִיהָ	תְּהִיָּה	לְחַרְבוֹת	עוֹלָם:			
	ہو-گی	بصرہ	اور-سب	شہر-اُس-کے	وہ-ہوں-گے	کھنڈر	بمیشہ			
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1224</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2723</a>	<a href="#">H5769</a>				

بو کھڑے رونگٹے کے لوگوں کر دیکھ اُسے گا۔ جائے بن کھنڈرات ابدی سمیت شہروں تمام کے نواح و گرد شہر بصرہ قسم، کی نام میرے ہے، فرماتا رب گا۔ چاہے انجام سا کا ہی بصرہ لئے کے دشمن اپنے والا کرنے لعنت گے۔ کریں طعن لعن اُسے وہ اور گے، جائیں

14	שְׂמוּעָה	שְׂמוּעֵתִי	מֵאֵת	יְהוָה	וְצִיר	בְּנוֹיִם	שְׁלֹחַ	הַתְּקַבְּצוּ	וּבְאוּ	עָלַיָּה
	خبر	میں-نے-سنی	کی-طرف-سے	یہوواہ	اور-قاصد	قوموں-میں	بھیجا-گیا	جمع-ہو	اور-اؤ	اُس-پر
	<a href="#">H8052</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H6908</a>	<a href="#">H0935</a>			
	וְקוֹמוּ	לְמִלְחָמָה:								
	اور-اُٹھو	جنگ-کے-لیے								
	<a href="#">H4421</a>									

اُس نکلو! لئے کے کرنے حملہ پر ادم کر ہو جمع دے، حکم انہیں جو بے گیا بھیجا پاس کے اقوام کو قاصد ایک ہے، سنا پیغام سے طرف کی رب نے میں اُٹھو! لئے کے لڑنے سے

15	כִּי-	הִנֵּה	קָטוּן	נִתְתִּיקָה	בְּנוֹיִם	בְּזוּי	בְּאָדָם:
	کیونکہ	دیکھو	چھوٹا	میں-نے-تجھے-بنایا	قوموں-میں	حقیر	آدمیوں-میں
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0959</a>	<a href="#">H0120</a>			

گے۔ جانبیں حقیر لوگ دیگر جسے قوم ایسی ایک گا، دوں بنا چھوٹا تجھے میں اب

16	הַפְּלִצְתָּךְ	הַשִּׂיא	אֲתָךְ	זְרוֹן	לְבָךְ	שְׂכָנִי	בְּחַנְנִי	הַסֵּלַע	תִּפְשִׂי	מְרוֹם
	دہشت-تیری	دھوکہ-دیا	تجھے	غرور	دل-تیرے-نے	رہنے-والے	دراڑوں-میں	-چٹان-کی	پکڑنے-والے	بلندی
	<a href="#">H8606</a>	<a href="#">H5377</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2087</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H2288</a>	<a href="#">H5553</a>	<a href="#">H8610</a>	<a href="#">H4791</a>	
	גִּבְעָה	כִּי-	תִּנְבִּיָּה	כְּנֶשֶׁר	קִנְיָה	מִשָּׁם	אֲזִירְדָה	נָאֵם-	יְהוָה:	
	پہاڑی-کی	کیونکہ	تو-اونچا-کرے-گا	عقاب-کی-طرح	گھونسلہ-اپنا	وہاں-سے	میں-تجھے-اتاروں-گا	فرماتا-ہے	یہوواہ	
	<a href="#">H1389</a>	<a href="#">H1361</a>	<a href="#">H5404</a>	<a href="#">H7064</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>		

ہے، کرتا بسیرا میں دراڑوں کی چٹانوں تو بے شک ہے۔ دیا فریب تجھے نے غرور تیرے اور نے بات اس لیکن تھے، کھاتے دہشت سے تجھ دوسرے میں ماضی خاک کر اُتار سے وہاں تجھے میں تو بھی بنائے نہ کیوں پر جگہوں اونچی سی کی عقاب گھونسلہ اپنا تو خواہ لیکن ہیں۔ میں قبضے تیرے بلندیاں پہاڑی اور ہے۔ فرمان کا رب یہ گا۔ دوں ملا میں

17	וְהִיָּתָה	אֲדוֹם	לְשֹׁמֵה	כָּל	עֲבָר	עֲלִיָּה	יִשָּׁם	וַיִּשְׁרַק	עַל-	כָּל-
	اور-ہو-گا	ادوم	ویرانی	ہر	گزرے-والا	اُس-پر	حیران-ہو-گا	اور-سیٹی-مارے-گا	پر	سب
	H1961	H0123	H8047	H3605			H8074	H8319		H3605

**مکوتہ:**

زخموں-اُس-کے  
H4347

گے۔ کہیں توبہ۔ توبہ وہ کر دیکھ کو زخموں کے اُس گے۔ جائیں ہو کھڑے رونگٹے کے والوں گزرنے سے وہاں کہ گا جائے ہو برباد یوں ادوم ملک

18	כְּמַהֲפֹכֶת	סָדוֹם	וְעַמּוֹרָה	וַיִּשְׁכְּנֶיהָ	אָמַר	יְהוָה	לֹא-	יֵשֵׁב	נָשָׁם	אֵישׁ	וְלֹא-
	الٹے-کی-طرح	سدوم	اور-عموره	اور-پڑوسیوں-اُس-کے	کہتا-ہے	یہوواہ	نہیں	رہے-گا	وہاں	آدمی	اور-نہیں
	H4114	H5467	H6017	H7934	H0559	H3068	H3808	H3427	H8033	H0376	H3808

پر دیسی-کرے-گا  
-اُس-میں  
بیٹا  
آدم-کا  
H0120

گا۔ بسے نہیں کوئی وہاں دیا۔ کر نابود و نیست کر اُلٹا نے اللہ جنہیں گا ہو مانند کی شہروں پڑوسی کے اُن اور عموره سدوم، انجام کا اُس ہے، فرماتا رب

19	הִנֵּה	כְּאֲרִיָּה	וְעֵלָה	מִנְאֹזַן	הַיַּרְדֵּן	אֶל-	נְהָ	אֵיתָן	כִּי-	אֲרִיָּעָה
	دیکھو	شیر-کی-طرح	وہ-چڑھے-گا	غرور-سے	یردن-کے	کی-طرف	چراگاہ	برا-بھرا	کیونکہ	لمحہ-میں
	H2009		H5927	H1347	H3383	H0413		H0386		

	אֲרִיָּעָה	מִנְאֹזַן	וְעֵלָה	אֶל-	אֲפָקָד	כִּי	כִּי	מִי	כְּמוֹנִי	וְגִי
	میں-انہیں-بھگاؤں-گا	اُس-سے	اور-کون	چنا-ہوا	میں-مقرر-کروں-گا	کیونکہ	کون	میری-طرح	اور-کون	
	H7323		H4310	H0977	H0413		H4310	H3644	H4310	

مجھے-چیلنج-کرے-گا  
اور-کون  
یہ  
چرواہا  
جو  
کھڑا-ہو  
سامنے-میرے  
H4400  
H5975

کے کر حملہ پر ادوم اچانک مہی طرح اُسی بے پڑتا ٹوٹ پر بھیڑیکریوں والی چرنے میں چراگاہوں شاداب کر نکل سے جنگل کے یردن شیربیر طرح جس طلب جواب سے مجھ کون ہے؟ مانند میری کون کیونکہ گا۔ کرے حکومت پر ادوم بے کیا مقرر نے مہی جسے وہ تب گا۔ دوں بھگا سے ملک اپنے کے اُس اُسے ہے؟ سکتا کر مقابلہ میرا بان گلہ سا کون ہے؟ سکتا کر

20	לָכֵן	שָׁמְעוּ	עֲצַת-	יְהוָה	אֲשֶׁר	יַעַן	אֶל-	אֲדוֹם	וּמַחֲשַׁבֹתָיו	אֲשֶׁר
	اس-لیے	سنو	منصوبہ	یہوواہ-کا	جو	اُس-نے-سوچا	کے-خلاف	ادوم	اور-منصوبوں-اُس-کے	جو
	H8085	H6098	H3068			H3289	H0413	H0123	H4284	

	חֶשֶׁב	אֶל-	יִשְׁבִּי	תִּימָן	אִם-	לֹא	יִסְחָבוֹם	צְעִירִי	הַצֵּאֵן	אִם-
	اُس-نے-سوچے	کے-خلاف	رہنے-والوں	تیمان	کیا	نہیں	انہیں-گھسیٹیں-گے	چھوٹے	بھیڑوں-کے	کیا
	H2803	H0413	H3427	H8487		H3808	H5498	H6810	H6629	

لَا  
نہیں  
وہ-ویران-کرے-گا  
اُن-پر  
بسیرہ-اُن-کا  
H8074  
H3808

تک بڑوں کر لے سے بچوں ننھے سے سب کو ریوڑ پورے دشمن دو! دھیان پر منصوبے کے اُس لئے کے باشندوں کے تیمان سنو! فیصلہ کا رب پر ادوم چنانچہ گی۔ جائے ہو سنسان و ویران چراگاہ کی اُس گا۔ جائے لے کر گھسیٹ

21	מִקְדָּל	נַפְלֹם	רַעֲשָׁה	הָאֲרִיץ	צִעֲקָה	בַּיִם-	סוּף	נִשְׁמַע	קוֹלָהּ:
	آواز-سے	گرنے-اُن-کے	کانپی	-زمین	چیخ	سمندر	سرخ-پر	سنی-گئی	آواز-اُس-کی
	H5307	H7493	H0776	H6818	H3220	H5488	H8085		

گی۔ دیں سنائی تک قُلزم بحر چیخیں کی لوگوں گی۔ اُٹھے تھرتھرا زمین کہ گا جائے گر سے دھڑام اتنے ادوم

22	הנה	כנשר	יעלה	וידעה	ויפרש	כנפיו	על-	בצרה	ויהיה	לב
	دیکھو	عقاب-کی-طرح	وہ-چڑھے-گا	اور-جھپٹے-گا	اور-پھیلائے-گا	پروں-اپنے	پر	بصرہ	اور-ہو-گا	دل
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H5404</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H1675</a>	<a href="#">H6566</a>	<a href="#">H3671</a>		<a href="#">H1224</a>	<a href="#">H1961</a>	

یادروں	ادوم-کے	بیزم	دن	اس	دل-کی-طرح	عورت	درد-زہ-میں	س
<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H0123</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0802</a>				

میں زہ درد دل کا سورماؤں ادومی دن اس ہے۔ ڈالتا سایہ پر بصرہ کر پھیلا کو پروں اپنے وہ ہے۔ مارتا جھپٹا پر ادوم کر اڑ طرح کی عقاب دشمن دیکھو! وہ گا۔ کھائے تاب و پیچ طرح کی عورت مبتلا

23	لدمشق	بوشہ	حمات	اور-ارفاد	کیونکہ	خبر	بری	انہوں-نے-سنی	وہ-پگھل-گئے
	<a href="#">H1834</a>	<a href="#">H0954</a>	<a href="#">H2574</a>	<a href="#">H0774</a>	<a href="#">H8052</a>			<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H4127</a>

سمندر-میں	فکر	سکون	نہیں	وہ-سکتا
<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H1674</a>	<a href="#">H8252</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>

سمندر متلاطم اس انہیں نے پریشانی ہیں۔ گئے بار ہمت وہ کر سن خبریں بُری ہیں۔ گئے بو شرمندہ ارفاد اور [حمات ہے، فرماتا میں بارے کے دمشق رب سکتا۔ نہیں تھم جو بے دیا کر بے جین جیسا

24	کمزور-ہو-گیا	دمشق	وہ-مڑا	بھاگے-کو	اور-کانپ	پکڑ-لیا	تکلیف	اور-درد	پکڑا-اسے
	<a href="#">H7503</a>	<a href="#">H1834</a>	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H5127</a>	<a href="#">H7374</a>	<a href="#">H2388</a>			<a href="#">H0270</a>

بیولڑہا:  
جننے-والی-کی-طرح  
[H3205](#)

بے-ربا تڑپ طرح کی عورت مبتلا میں زہ درد وہ اور ہے، گئی چھا پر اس دہشت ہے۔ گیا مڑ لے کے بھاگے کر بار ہمت دمشق

25	کیسے	نہیں	چھوڑا-گیا	شہر	[تعریف]	تعریف-کا	شہر	خوشی-میری-کا
	<a href="#">H3808</a>				<a href="#">H8416</a>	<a href="#">H7151</a>	<a href="#">H4885</a>	

بے-سنسان و ویران وہ تھا ہوتا اندوز لطف دل میرا سے شہر مشہور جس ہے! گیا کیا ترک کو دمشق ہائے،

26	اس-لیے	گریں-گے	جوان-اس-کے	گلیوں-اس-کی-میں	اور-سب	مرد	جنگ-کے	خاموش-ہوں-گے	بیزم
	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H0970</a>	<a href="#">H7339</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3117</a>		

اس فرماتا ہے  
یہوواہ  
لشکروں-کا  
[H3068](#) [H5002](#) [H1931](#)

گے۔ جائیں ہو ہلاک فوجی تمام کے اس گے، جائیں رہ کر گر میں گلیوں آدمی جوان کے اس دن [اس ہے، فرماتا الافواج رب

27	اور-میں-لگاؤں-گا	آگ	دیوار-میں	دمشق	اور-کھا-جائے-گی	محلوں	بن-بدد-کے	س
	<a href="#">H3341</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H2346</a>	<a href="#">H1834</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0759</a>	<a href="#">H1130</a>	

گی۔ لے میں لپیٹ اپنی بھی کو محلوں کے بادشاہ ہدد بن پھیلتے پھیلتے جو گا دوں لگا آگ کو فصیل کی دمشق مہیں

قیدار کے بارے میں اور مملکتوں	حضور	آشور	ہکھ	[نبوکردراصور]	(نبوکردراصور)	مُلْد-	بابل کے
<a href="#">H6938</a>	<a href="#">H2674</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H5019</a>	<a href="#">H5020</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0894</a>	
کہا	آمر	یہوواہ	انہو	چڑھو	خلاف	قیدار	اور لوٹو
<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6938</a>	<a href="#">H7703</a>	<a href="#">H0853</a>

پر قیدار آٹھوا! ہے، فرماتا رب دی۔ شکست انہیں نے نبوکردنصر بابل شاہ میں بعد ہے۔ درج کلام میں بارے کے قبیلوں بَدُو کے حضور اور قیدار میں ذیل کرواتبہ کو قبیلوں بَدُو والے بسنے میں مشرق کرو! حملہ

آہلیہم	وہ لے-لیں گے	اور-بھیڑ-آن-کی	وہ لے-لیں گے	پر دے-آن-کے	اور-سب	سامان-آن-کا	اور-اونٹ-آن-کے	وہ لے-لیں گے
<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H1581</a>	<a href="#">H5375</a>	
لہم	اپنے لیے	اور-پکاریں گے	آن-پر	دہشت	چاروں-طرف سے	مقربب:		
<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H4032</a>	<a href="#">H5439</a>					

چاروں بائے، گی، دیں سنائی جیخیں گے۔ لو لوٹ کو سامان باقی اور پردوں کے خیموں کے آن گے، لو چھین کو اونٹوں اور بھیڑیکریوں خیموں، کے آن تم دہشت! بی دہشت طرف

نکو	دور-بھاگو	بہت	گہرائی-میں-جاؤ	بسنے-کو	ربنے-والو	حضور	فرماتا ہے	یہوواہ	کیونکہ	سوچی
<a href="#">H5127</a>	<a href="#">H5110</a>	<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H6009</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H2674</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3289</a>	
عَلِيْہِم	تمہارے	خلاف	نبوکردنصر نے	بادشاہ	بابل کے	منصوبہ	اور-سوچی	[آن-پر]	تمہارے-پر	تدبیر
<a href="#">H5019</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0894</a>	<a href="#">H6098</a>	<a href="#">H2803</a>	<a href="#">H4284</a>	<a href="#">H5921</a>				

کر فیصلہ کا کرنے حملہ پر تم نے بابل شاہ کیونکہ جاؤ! چھپ میں دراڑوں کی زمین جاؤ، بھاگ سے جلدی قبیلو، والے بسنے میں حضور آئے ہے، فرماتا رب ہے۔ لیا باندھ منصوبہ خلاف تمہارے کے

قونمو	چڑھو	خلاف	قوم	بے-فکر	ربنے-والی	اطمینان سے	فرماتا ہے	یہوواہ	نہیں	دروازے
<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7961</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0983</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3808</a>				
قونمو	آن-کے	اکیلے	وہ-بستے-ہیں	بدر	قونمو	آن-کے	ارڑ	آن-کے	ارڑ	آن-کے
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H0910</a>	<a href="#">H7931</a>							

کنڈے نہ دروازے، نہ کے جس ہے، گزارتی زندگی محفوظ اور پرسکون میں علیحدگی جو کرو حملہ پر قوم اُس کر اٹھ فوجیو، کے بابل آئے ہے، فرماتا رب ہیں۔

وہیو	اونٹ-آن-کے	لوت	اور-کثرت	موبیشیوں-آن-کی	شکار	اور-میں-بتتر-بتروں-گا-انہیں	بر
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1581</a>	<a href="#">H0957</a>	<a href="#">H4735</a>	<a href="#">H7998</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2219</a>	<a href="#">H3605</a>
رینح	کٹے-ہوئے-بالوں-والے	کنہیوں-سے	اور-سب-سے	اطراف-اُس-کے	میں-لاؤں-گا	کو	مصیبت-آن-کی
<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H7112</a>	<a href="#">H6285</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5676</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0343</a>
یہوواہ							
<a href="#">H3068</a>							

پر اُن گا۔ دوں کر منتشر طرف چاروں کو قبیلوں اِن والے ربنے پر کنارے کے ریگستان میں کیونکہ گے۔ جائیں بن مال کا لوٹ ریوڑ بڑے بڑے اور اونٹ کے اُن ہے۔ فرمان کا رب یہ گی۔ آئے آفت سے طرف چاروں

33	וְהִיָּתָה חֲצֹר לְמַעֲוֹן	תָּנִים שְׂמֹמָה	עַד- עוֹלָם	לֹא- יֵשֵׁב	שָׁם אִישׁ וְלֹא-
	اور-ہو-گا حاصور ڈیرہ	گیدڑوں-کا ویرانی	تک ہمیشہ	رہے-گا نہیں	اور-نہیں آدمی وہاں
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4583</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H8033</a>

יְגוּר - אָרָם : כּוֹן - אָרָם :  
پر دیسی-کرے-گا -اُس-میں بیٹا آدم-کا  
H0120

گے۔ [ ] لیں بنا گھر اپنے میں اُس ہی گیدڑ گا۔ بسے نہیں کوئی میں اُس گا، رہے سستان و ویران تک ہمیشہ [ ] حصور

34	אֲשֶׁר הָיָה דְבַר- יְהוָה	אֶל- יְהוָה	יְרֵמְיָהוּ הַנְּבִיא	אֶל- עֵילָם	בְּרֵאשִׁית מַלְכוּת
	جو ہوا کلام یہوواہ-کا سے	یہوواہ-کا سے	یرمیاہ نبی	عیلام کے-بارے-میں	بادشاہی شروع-میں
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5030</a>

צְדָקָיָה מֶלֶךְ- יְהוּדָה : לְאֶמֶר :  
صدقیہ بادشاہ کے کہتے-ہوئے  
H4428 H3063 H0559

تھا۔ متعلق کے عیلام پیغام ہوا۔ کلام ہم سے نبی یرمیاہ رب میں دنوں ابتدائی کے حکومت کی صدقیہ یہوداہ شاہ

35	כָּה אָמַר יְהוָה	צְבָאוֹת	הַנְּנִי	שָׁבַר	אֶת- קֶשֶׁת	עֵילָם	רֵאשִׁית
	یوں کہتا-ہے یہوواہ لشکروں-کا دیکھو-میں توڑنے-والا-ہوں کو کمان	لشکروں-کا دیکھو-میں توڑنے-والا-ہوں کو کمان	توڑنے-والا-ہوں کو کمان	توڑنے-والا-ہوں کو کمان	توڑنے-والا-ہوں کو کمان	عیلام-کی پہلی-چیز	بادشاہی
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7198</a>

דְּבוּרָתָם :  
طاقت-اُن-کی  
H1369

ہے۔ مبنی طاقت کی عیلام پر جس کو ہتھیار اُس ہوں، ڈالتا توڑ کو کمان کی عیلام [ ] میں ہے، فرماتا الافواج [ ] رب

36	וְהִבְאֵתִי אֶל- עֵילָם	אֶרְבֶּעַ רִחוֹת	מְאַרְבַּעַ קְצוֹת	הַשָּׁמַיִם	וְנִרְתָּיִם
	اور-میں-لاؤں-گا پر عیلام چار ہوائیں چاروں-سے کناروں	چار ہوائیں چاروں-سے کناروں	چاروں-سے کناروں	آسمان-کے	اور-میں-تتر-بتتر-کروں-گا-انہیں
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H2219</a>

لְכֹל הַרְחֹת	הָאֲלֹהִים	וְלֹא- יְהוָה	הַזֵּנוּ	אֲשֶׁר	לֹא- יְבֹא	שָׁם	נְדָחִי	עוֹלָם
سب -ہواؤں	ان- اور-نہیں	ہو-گی	قوم	جہاں	نہیں آئیں-گے	وہاں نکالے-ہوئے	[ ] عیلام	[ ] عیلام
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H5080</a>	

( ) : عֵילָם :  
عیلام-کے  
H5867

گا ہو نہیں ملک ایسا کوئی گی۔ دیں کر منتشر طرف چاروں کر اُزا انہیں جو گا چلاؤں ہوائیں تیز خلاف کے عیلامیوں میں سے سمتوں چاروں کی آسمان گے۔ [ ] پہنچیں نہیں جلاوطن عیلامی تک جس

37	וְהַחֲתִיתִי אֶת- עֵילָם	לְפָנַי	אֵיבֵיהֶם	וְלִפְנֵי	מִבְקָשִׁי	נִפְשָׁם
	اور-میں-دہشت-زدہ-کروں-گا کو عیلام سامنے	سامنے دشمنوں-ان-کے	اور-سامنے دشمنوں-ان-کے	اور-سامنے دشمنوں-ان-کے	ڈھونڈنے-والوں جان-ان-کی	اور-میں-دہشت-زدہ-کروں-گا
	<a href="#">H2865</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H5315</a>

וְהִבְאֵתִי	וְעֵלֵיהֶם	רָעָה	אֶת- קְרוֹן	אֶפְי	נָאֵם-	יְהוָה	וְשִׁלַּחְתִּי
اور-میں-لاؤں-گا	ان-پر	برائی کو	شدت کو	غضب-میرے	فرماتا-ہے	یہوواہ	اور-میں-بھیجوں-گا
<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7971</a>

אֲחֵרֵיהֶם : אֶת- הַחֲרֹב

پیچھے-ان-کے کو -تلوار تک

[H0853](#) [H2719](#) [H5704](#)

وہ تک جب گا۔ ہو نازل پر اُن قہر سخت میرا گا، لاؤں آفت پر اُن میں گا۔ دوں کر پاش پاش سامنے کے دشمنوں جانی کے اُس کو عیلام [ ] میں ہے، فرماتا رب گارہوں چلاتا پیچھے کے اُن کو تلوار میں ہوں نہ نیست

נָאֵם - فرماتا-ہے <a href="#">H5002</a>	וְשָׂרִים اور-سرداروں <a href="#">H8269</a>	מֶלֶךְ بادشاہ <a href="#">H4428</a>	מִשָּׁם وہاں-سے <a href="#">H8033</a>	וְהֶאֱבֹדְתִי اور-میں-فنا-کروں-گا <a href="#">H0006</a>	בְּעֵינָם عیلام-میں <a href="#">H3678</a>	כִּסְאֵי تخت-اپنا <a href="#">H3678</a>	וְשִׁמְתִי اور-میں-قائم-کروں-گا
---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

יְהוָה:

یہوواہ

[H3068](#)

بے-فرمان کا رب یہ گا۔ دوں کر تباہ کو بزرگوں اور بادشاہ کے اُس کے کر کھڑا تخت اپنا میں عیلام میں تب

נָאֵם - فرماتا-ہے <a href="#">H5002</a>	עֵינָם عیلام-کے	שְׁבוּת) (שְׁבוּת) قیدیوں <a href="#">H7622</a>	שְׁבוּת] [שְׁבוּת] [قیدیوں] <a href="#">H7622</a>	אֶת- کو <a href="#">H0853</a>	(אֲשִׁיב) میں-لوٹاؤں-گا <a href="#">H7725</a>	[אֲשִׁיב] [میں-لوٹاؤں-گا] <a href="#">H7725</a>	הַיָּמִים -دنوں <a href="#">H3117</a>	בְּאַחֲרֵית آخری-میں <a href="#">H0319</a>	וְהָיָה اور-ہو-گا <a href="#">H1961</a>	39
---	--------------------	---	---	-------------------------------------	---	---	---	--	---	----

יְהוָה:

یہوواہ

[H3068](#)

گا۔ کروں بحال کو عیلام میں دنوں والے آئے ہے، فرماتا بھی یہ رب لیکن